

برائے فوری اجراء

سٹی آف برامپٹن، 22 مئی تک نیشنل پبلک ورکس ویک کی خوشیاں منا رہا ہے

برامپٹن، آن (17 مئی 2021) – آج سٹی کی جانب سے نیشنل پبلک ورکس ویک (NPWW) کی تقریبات کا باضابطہ آغاز کر دیا گیا ہے، جس کے دوران اُن خواتین و حضرات کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا جنہوں نے ہماری کمیونٹی کو محفوظ، صاف ستھرا اور رواں دواں رکھنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کیا ہے۔

سٹی آف برامپٹن کے تقریباً 700 ملازمین پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ ٹیم کا حصہ ہیں، جو فرنٹ لائن پر جا کر ہمارے لیے انتہائی اہم نوعیت کے ضروری کام سر انجام دیتے ہیں، بشمول سائیڈ واکس کی تعمیر اور بحالی، سڑکوں اور پلوں کی بحالی تاکہ ٹریفک کی روانی میں کوئی خلل پیدا نہ ہو، سگنل اور اسٹریٹ لائٹس کی دیکھ بھال، موسم بہار کے دوران صفائی، برف ہٹانے کا کام، کیچ بیسن (برسانی نالوں) کی صفائی اور سڑکوں اور گلیوں کی جھاڑ بونچھ

کووڈ-19 کی وباء پھوٹنے سے پہلے، سٹی آف برامپٹن نے پورا ہفتہ چانے والی متعدد دلچسپ اور دلکش سرگرمیوں کے ذریعے اس بارے میں عوامی آگاہی پیدا کر کے NPWW کو منایا کہ پبلک ورکس کی خدمات ہر روز ہماری کمیونٹی پر کیسے مثبت اثرات مرتب کرتی ہیں۔ اگرچہ اس سال کسی قسم کی بالمشافہ تقریبات کا انعقاد نہیں کیا جا رہا، مگر NPWW کے حوالے سے [بچوں کے لیے ایک کلرنگ شیٹ](#) رکھی گئی ہے، جن میں رنگ بھرے جا سکتے ہیں اور ان کی تصاویر کو سوشل میڈیا پر پوسٹ کیا جا سکتا ہے۔ رہائشی برامپٹن کے پبلک ورکس ڈیپارٹمنٹ میں کام کرنے والے لوگوں کے بارے میں اس پورے ہفتے کے دوران مزید جان سکتے ہیں اور اس حوالے سے [ٹویٹر](#)، [فیس بک](#) اور [انسٹاگرام](#) پر عملے کی ویڈیوز موجود ہیں، یا مزید معلومات کے لیے www.brampton.ca ملاحظہ کریں۔

اقتباسات

"نیشنل پبلک ورکس ویک ایک ایسا موقع ہے جس کے دوران عوام کو ہماری روزمرہ زندگیوں میں پبلک ورکس کے اہم کردار کے بارے میں آگاہ کیا جا سکتا ہے۔ منصوبہ بندی سے لے کر تعمیرات اور بحالی کے کاموں تک – پبلک ورکس کے ہمارے پیشہ ور ماہرین ہمارے لیے کلیدی نوعیت کے ایسے امور سر انجام دیتے ہیں جو ہماری سرسبز و شاداب، صحت مندانہ اور محفوظ کمیونٹی کے لیے شہرگ کی حیثیت رکھتے ہیں۔"

- پیٹرک براؤن، میئر، سٹی آف برامپٹن

"اس سال کا مرکزی خیال، اتحاد میں طاقت (Stronger Together) ہے۔ پچھلے سال کے دوران، ہماری پبلک ورکس ٹیم نے انتہائی لچکدار ہونے کا ثبوت دیا ہے؛ انہوں نے ہماری کمیونٹی کی صحت اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اپنی خدمات کی سطح کو نہ صرف برقرار رکھا ہے بلکہ ہماری توقعات سے بھی آگے بڑھ کر کام کیا ہے۔"

- پال ویسیٹی، ریجنل کونسلر، وارڈز 1 اور 5: چیئر، پبلک ورکس اینڈ انجینئرنگ، سٹی آف برامپٹن

"ہمارے پبلک ورکس کے پیشہ وارانہ ماہرین نے ہمارے اہم انفراسٹرکچر، سہولیات اور خدمات کو بحال اور برقرار رکھنے کے لیے خوب محنت کی ہے، جو ہماری قابل دوام اور لچکدار کمیونٹی، صحت عامہ اور برامپٹن کے رہائشیوں کی اعلیٰ معیار کی زندگی اور فلاح و بہبود کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ نہ صرف اس ہفتے کے دوران بلکہ ہر ہفتے، ہم اپنی ٹیم کی خدمات کا برملا اعتراف اور شکریہ ادا کریں گے، جن کی شبانہ روز محنت کی وجہ سے ہی برامپٹن کی کمیونٹی صحت مندانہ اور محفوظ رہتی ہے۔"

- ڈیوڈ بیرک، چیف ایڈمنسٹریٹو آفیسر، سٹی آف برامپٹن

کینیڈا میں تیز ترین رفتار سے بڑھنے والے شہروں میں سے ایک کے طور پر برامپٹن 700,000 سے زائد لوگوں اور 75,000 سے زائد کاروباروں کا گھر ہے۔ ہمارے ہر عمل کا مرکز عوام ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنی متنوع کمیونٹی سے توانائی ملتی ہے، ہم سرمایہ کاری کے لیے کنش پیدا کرتے ہیں اور ہم ٹیکنالوجی اور ماحولیاتی جدت میں رہنما کردار ادا کرنے کے سفر پر نکل رہے ہیں۔ ہم اس لیے شراکت داری کرتے ہیں تاکہ ہم ایک ایسا صحت مندانہ شہر بنا سکیں جو محفوظ، قابل دوام اور کامیاب ہو۔ ہمارے ساتھ ٹویٹر، فیس بک اور انسٹاگرام پر مربوط ہوں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

مونیکا ڈوگال

کوآرڈینیٹر، میڈیا اینڈ کمیونٹی انگیجمنٹ

اسٹریٹیجک کمیونیکیشن

سٹی آف برامپٹن

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca